



”جبریل مجھؑ پڑوسی کے (حق کے) بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھؑ خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنادیں گے“

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جبریل مجھؑ پڑوسی کے (حق کے) بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھؑ خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنادیں گے“
[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جبریل آپ کو پڑوسی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اور رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، کا خیال رکھتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرنے، اسے تکلیف نہ پہنچانے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور اس کی جانب سے دی جانے والی اذیت پر صبر کرنے کا حکم اس طرح بار بار دیتے رہے کہ آپ کو اس تاکید اور تکرار سے بے لگنے لگا کہ آپ پر ایسی وحی اترنے والی ہے، جس میں میت کے چھوڑے ہوئے مال میں پڑوسی کو حصہ دار بنانے کی بات ہو۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4965>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

